

Water restrictions do's and don'ts	پانی کی پابندیوں سے متعلق کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے
The following is not allowed under the current Stage 4 water restrictions:	موجودہ مرحلے (اسٹیج) 4 میں پانی کی پابندیوں کے تحت درج ذیل کی اجازت نہیں ہے:
All outdoor water use is temporarily banned.	پانی کے تمام بیرونی استعمال پر عارضی طور پر پابندی ہے۔
At this time don't:	اس وقت نہ کریں:
<ul style="list-style-type: none"> Water lawns, gardens, flowers, trees and shrubs with City water 	<ul style="list-style-type: none"> سٹی (City) کے پانی سے لان، باغات، پھولوں، درختوں اور جھاڑیوں کو پانی دینا
<ul style="list-style-type: none"> Fill outdoor pools or hot tubs 	<ul style="list-style-type: none"> بیرونی تالابوں یا گرم پانی کی ٹبوں (باٹ ٹبز) کو بھرنا
<ul style="list-style-type: none"> Wash outdoor surfaces, including: <ul style="list-style-type: none"> Windows Exterior building surfaces Sidewalks, driveways or walkways 	<ul style="list-style-type: none"> بیرونی سطحوں کو دھونا، بشمول: <ul style="list-style-type: none"> کھڑکیاں عمارت کی بیرونی سطحیں فٹ پاتھ، ڈرائیو ویز یا واک ویز
<ul style="list-style-type: none"> Fill fountains or decorative water features 	<ul style="list-style-type: none"> فوارے یا پانی کی آرائشی خصوصیات کو بھرنا
<ul style="list-style-type: none"> Wash your car in the driveway or street 	<ul style="list-style-type: none"> اپنی گاڑی کو ڈرائیو وے یا گلی میں دھونا
<ul style="list-style-type: none"> Use water for construction purposes such as grading, compaction or dust control 	<ul style="list-style-type: none"> تعمیراتی مقاصد کے لیے پانی کا استعمال کرنا جیسے کہ درجہ بندی (گریڈنگ)، روندنا (کمپیکشن) یا گرد (ڈسٹ) کنٹرول
Thank you for your patience and cooperation during this time.	اس دورانیے میں آپ کے صبر اور تعاون کے لیے آپ کا شکریہ
Want to do more?	مزید کچھ کرنا چاہتے ہیں؟
Reducing indoor water and non-essential use will help our water treatment plants, rivers and reservoirs catch up with demand.	اندرونی پانی کے استعمال اور اس کے غیر ضروری استعمال کو کم کرنے سے ہمارے واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس، دریاؤں اور آبی ذخائر کی طلب کو پورا کرنے میں مدد ملے گی۔
Do You can help reduce your indoor water use by:	آپ اپنے گھر کے اندر پانی کے استعمال کو کم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں بذریعہ:
<ul style="list-style-type: none"> Using the dishwasher and washing machine only when required and with full loads 	<ul style="list-style-type: none"> ڈش واشر اور واشنگ مشین کا استعمال صرف ضرورت کے وقت اور مکمل لوڈز کے ساتھ کر کے
<ul style="list-style-type: none"> Turning off humidifiers, ice machines and automatic sprinkler systems 	<ul style="list-style-type: none"> ہیومیڈیفائرز، انس مشینوں اور خودکار پانی چھڑکنے والے نظام (اسپرینکلرز) کو بند رکھ کر
<ul style="list-style-type: none"> Scraping your plate clean rather than rinsing off food 	<ul style="list-style-type: none"> پلیٹ پر بقایا کھانے کو رواں پانی سے دھونے کی بجائے اپنی پلیٹ کو صاف کر کے
<ul style="list-style-type: none"> Washing vegetables and fruit in a partially filled sink or pot and then rinse them quickly 	<ul style="list-style-type: none"> سبزیوں اور پھلوں کو جزوی طور پر بھرے ہوئے سنک یا برتن میں دھو کر اور پھر انہیں جلدی سے رواں پانی میں دھو کر
<ul style="list-style-type: none"> Keeping a job-jug of drinking water in your fridge. Don't run the tap to get ice-cold water 	<ul style="list-style-type: none"> اپنے فریج میں پینے کے پانی کا جگ رکھنا۔ برف جیسا ٹھنڈا پانی حاصل کرنے کے لیے نل نہ چلانا
<ul style="list-style-type: none"> Turning off the tap when brushing teeth or shaving 	<ul style="list-style-type: none"> دانت برش کرتے وقت یا مونٹھے وقت نل کو بند رکھنا
<ul style="list-style-type: none"> Limiting showers to three minutes or less and keeping baths shallow if you're able to do so (e.g., people with mobility challenges). 	<ul style="list-style-type: none"> شاورز کو تین منٹ یا اس سے کم وقت تک محدود رکھنا اور اگر آپ ایسا کرنے کے قابل ہیں تو ٹب میں نہانے کے پانی کو کم رکھیں

(مثلاً، جن لوگوں کو نقل و حرکت کی مشکلات
(چیلنجز) کا سامنا ہے۔)